

د (۱) ع	عربی	مترتب اوس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی غیر زبان کا لفظ ہو اور
(۲) ف	فارسی	اوس میں کچھ تغیر یا تبدل کر کے مثل عربی کے بنائیں جیسے
(۳) ت	ترکی	تغنیج اصل میں چنگ تھا۔ چ کو۔ ص سے۔ اور۔ گ کو
(۴) م ب	مغرب	ج سے بدل لیا اسکو مغرب کہیں گے۔

حرف الف

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی				
اختلاط	ع	میل جول	ع	اجرام	ع	جمع جسم	انعتقاد	ع	قصد ارپانا
احترام	ع	تعظیم و تکریم	ع	اوضاع	ع	وضعیں	ایشیار	ع	خیرات
انحاض	ع	چشم پوشی	ع	السبیل	ع	مسافر	اعیان	ع	شرف خاص لوگ
انضار	ع	بلانا۔ حاضر کرنا	ع	ارکان	ع	ستون۔ ایروزیہ	آماج۔ ف	نشانہ۔	
اہل	ف	عقل مند لوگ	ع	اہل بزم۔ ف	ع	بہساور	اتفاق آسانی	ع	تقدیر انہی
ایلیٰ	ت	قاصد۔ تابعدار	ع	اتالیق۔ ت	ع	سکھلا بیولا۔ اوستا	ایل۔ ت	سلسل	
الش	ت	جھوٹا کھانا	ع	اولنگ۔ ت	ع	بنرہ زار۔	ایل۔ ت	دوست یا جماعت	
ایضار۔ ت	ع	پڑنا یا دشمنی	ع	ایلیٰ۔ ت	ع	گھوٹو کی جماعت	ایلیات۔ ت	صوفیائے مشین	

بائی عربی

بشارت۔ ع	خوشخبری	بضاعت۔ ع	پونجی۔	بشرہ۔ ع	پہچہ
----------	---------	----------	--------	---------	------

لفظ عربی فارسی و ترکی

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
بسیط	ع	بافتاد	ف	عاجز ہوا	بار - ف
بکیش	ف	بارگی	ف	گھوڑا	باقہمہ غیر طبیعی - ف
باجی	ف	بابام	ف	باب میرا	بیگہاشی - ت
بغچہ یا پتہ	ت	بیرق	ت	چھوٹا نیزہ	بیگہ - ت
بیگم	ت	بیگہ بیگ	ت	امیر الامرا	بالتاق - ت
بیج	ب	بیدق	ب	نرو	باوی النظر - ع

بہار

باقی فارسی

پیشاب	ف	پرویزن	ف	جھلنی	پاسور - ف
پول عقل	ف	پارہ کلمات	ف	چند الفاظ	پیش خندو - ف
پاداش	ف	پالہنگ	ف	پاگڈور	پگاہ - ف
پیکار	ف	پیلو تہی کرنا	ف	انکار کرنا	پوشش - ف
پویک	ت	پوچ	ت	پوہیات	پلاس - ت

باقی توتالی

تشکیک	ع	تشریف	ع	خلعت	تشخیص - ع
تضرع	ع	تخیر	ع	تتابع کرنا	تذکیہ - ع
تفتیش	ع	تکزیب	ع	تجوٹا پھیرنا	تشریحی - ف
					تجربہ - ف

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
ترکاور - ف	قدم باز گھوڑا	تاوان - ف	ڈانڈ	تلاش - ت	جستجو
تاغی - ت	باغی	تاقتی - ت	ٹوپی	تنبان - ت	پانچاسہ
تنگری - ت	خدا تعالیٰ	توپ - ت	فوج - لشکر	تورہ - ت	قانون
توزک - ت	سامان آرائش	توشک - ت	فرش	توشمال - ت	خانسامان
تیول - ت	جاگیر چسپ گزارہ ہو	تمن - ت	دس ہزار آدمی	تمغا - ت	محصول
تنور - ع - ف - ت	روٹی پکانے کی جگہ	تضحیک - ع	ہنسنا - ہنسانا	تقیہ - ع	آراستہ کرنا
تمامی مثلث					
ثاقب - ع	روشن	ثبات - ع	پائداری	ثقة - ع	معتبر
ثمر - ع	پھل	ثمین - ع	قیمتی	ثروت - ع	توانگری
ثبت - ع	لکھنا	ثور - ع	بیل	ثریا - ع	پروین
جیم تازی					
جراحت - ع	زخم	جلیس - ع	ہنشین	جنود - ع	شکرنا
جناح - ع	بازو	جووت - ع	عہگی	جیش - ع	شکر
جزع - ع	بیجبری	جرعہ - ع	گھونٹ	جبان - ع	پہشت
جمیل - ع	خوبصورت	چلیل - ع	بڑا	جدد - ع	چوٹی
جوع - ع	بھوکھ	جبارت - ع	دلیری	جلدو - ف	الغمام

تلاش - جستجو
 تنبان - پانچاسہ
 تورہ - قانون
 توشمال - خانسامان
 تمغا - محصول
 تقیہ - آراستہ کرنا
 ثاقب - روشن
 ثبات - پائداری
 ثمین - قیمتی
 ثروت - توانگری
 ثریا - پروین
 جیم تازی
 جیش - شکر
 جبان - پہشت
 جدد - چوٹی
 جلدو - الغمام

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
جاجم - ت	قسم فرسش	جلو - ت	باگ گھوڑکی	جوق - ت	فوج - گروه آدمی کا
جھون - ت	ایک پانی ڈیک پلخ	جھیر - ت	زیور مرصع	جڑہ - ف - ت	باز کا نر
جزنغار - ت	فوج	جریب - مب	ایک پیمانہ	جزر - مب	گاجر
جلنار - مب	ہے گلنار کا	جواسیس - مب	جمع جاسوس کی	جوالم - مب	تھمبلا
جود لاغی - ت	بد ذات	جسد - ع	بدن	جمادات - ع	پتھر پٹی وغیرہ
حیم فارسی					
چفت - ف	زنجیر	چکر - ف	موزہ	چوپان - ف	پاسبان
چارچوب - ف	چوکھٹ	چنگ - ف	ہاتھ	چرخ - ف	آسمان
چاق - ت	تندرست	چشم بد - ف	بد نظر	چیرہ - ف	غالب
چگونگی - ف	کیفیت	چراگاہ - ف	رہنا	چالپوسی - ف	خوشامد
چارقب - ت	ایک کلباں لڑکا	چقلش - ت	لڑائی تلوار کی	چقماق - ت	وہ پتھر جس سے آگ نکلتی ہے
چندول - ت	شکر	چٹک - ف	عینک	چہار دانگ - ف	دنیا کی چار جہت
حای ہمسلا					
حانوت - ع	دوکان	حیم - ع	چار دیواری	حریف - ع	ہم نشین
حباط - ع	صحن	حڈہ - ع	لباس	حدیقہ - ع	باغ
حدت - ع	تیزی	حزین - ع	غمگین	حشمت - ع	دبدبہ

جھون - ت ایک پانی ڈیک پلخ
 جھیر - ت زیور مرصع
 جڑہ - ف - ت باز کا نر
 جزر - مب گاجر
 جوالم - مب تھمبلا
 جمادات - ع پتھر پٹی وغیرہ
 چفت - ف زنجیر
 چکر - ف موزہ
 چرخ - ف آسمان
 چیرہ - ف غالب
 چالپوسی - ف خوشامد
 چقماق - ت وہ پتھر جس سے آگ نکلتی ہے
 چہار دانگ - ف دنیا کی چار جہت
 چاق - ت تندرست
 چشم بد - ف بد نظر
 چراگاہ - ف رہنا
 چقلش - ت لڑائی تلوار کی
 عینک
 چٹک - ف عینک
 چندول - ت شکر
 حانوت - ع دوکان
 حباط - ع صحن
 حدت - ع تیزی
 حیم - ع چار دیواری
 حڈہ - ع لباس
 حریف - ع ہم نشین
 حدیقہ - ع باغ
 حشمت - ع دبدبہ

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
حرف مفت	کلام بیوده	حالی کف	معلوم کردن	حلقه بگوش	غلام
خامی					
خریطه	تپیلی	خزف	شیکری	خال	تل
خیش	بدی	خیل	گروه	خائن	وغا بار
خاتم	انگوشی	خزنگ	تیر	خفته شو	خاموش رہا
خزوه	زیاده چھوٹا	خازندش	مسافر	خفک	ت سرد
خیک	مشک	خزانی	خزانه رکھنے والا	خائف	ڈرپوک
وال					
دلریا	مشتوق	دلنگ	آزردہ	دوک	مکھ
دو	ورندہ	دو دول	آہ	دوڑم	خشکین
درست	اچھا - اشرقی	دام	قسم وزن	درخور	لائق
دولیت	دوسو	دلکش	مرغوب	دہیم	تاج
دیکھ	گنڈی	دوستاق	قید خانہ	دیکھو نرت	دریا
ذال					
ذریب	اولاد	ذکاوت	تیز ذہنی	ذاکر	ذکر کرنے والا
ذہب	سونہ	ذخیرہ	سامان بچھا رکھنا	ذولت	خوارگی

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
ذہول - ع	بھولجانا	ذراع - ع	اگر - ع	ذکا - ع	تیز ذہنی - ع
رای مہسل					
رفیق القلب - ع	نرم دل	راسخ - ع	مضبوط	رعنا - ع	زیبا
رفعت - ع	بلندی	رسم الخط - ع	لکھنے کی ریت	ریاضت - ع	محنت کرنا
روئیں - ف	پچھرس	ریشخند - ف	سرخگی	رو باز - ف	برقعہ نکالی ہو
ریاکار - ف	فریبی	زرم - ف	جنگ	رازیانج - م	بادیان رسو لفظ
زای معجم					
زمن - ع	زمانہ	زائل - ع	دور ہونے والا	زورق - ع	کشتی کوچک
زخروہ - ع	گروہ	زاویہ - ع	گوشہ	زبرجد - ع	زمرد
زخمہ - ف	مضرب	زنگی - ف	جیشی	زہنا - ف	پناہ
زر قلب - ف	کھوٹا سونا	زادراہ - ف	توشہ	زاد بوم - ف	وطن
زندیق - م	موت بیک کا ہے	زرع - ع	کھیتی کھیتی کرنا	زغال - ع	کولہ
سین مہسل					
ساحل - ع	کنارا	سرعت - ع	جلدی	سطوت - ع	دبیر
سہوم - ع	گرم ہوا	سرمی - ع	دائی	سادہ لوح - ف	احمق
سالوس - ف	سکار	سالجوردہ - ف	پوڑھا	سرفہ - ف	کھانسی

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
سلاح شویف	سپاہی	سوغوار - ف	سوغوار - ف	سوغات - ف	سوغات - ف
سایق - ت	سرسی	سزاول - ت	سزاول - ت	ساخوی - ت	ساخوی - ت
سیورسات	سربزای	سجبت - ع	سجبت - ع	سواع - ع	سواع - ع
شین معجب					
شحنہ - ع	شکوہ	شرا - ع	شرا - ع	شایق - ع	شایق - ع
شوکت - ع	شوکت	شیمہ - ع	شیمہ - ع	شہادت - ع	شہادت - ع
شیداء - ف	شیداء	شہستان - ف	شہستان - ف	شہاداب - ف	شہاداب - ف
شلکوفہ - ف	شلکوفہ	شیفتہ - ف	شیفتہ - ف	شہریار - ف	شہریار - ف
شتم - ت	شتم	شلاق - ت	شلاق - ت	شورغال - ت	شورغال - ت
شلک - ت	شلک	شب میجر - ع	شب میجر - ع	شہجون - ع	شہجون - ع
صا و مہسلہ					
صیام - ع	صیام	صوم - ع	صوم - ع	صولت - ع	صولت - ع
صیر - ع	صیر	صیمم - ع	صیمم - ع	صائم الدہر - ع	صائم الدہر - ع
صحیح - ع	صحیح	صانع - ع	صانع - ع	صومعہ - ع	صومعہ - ع
صحاف - ع	صحاف	صدور - ع	صدور - ع	صباح - ع	صباح - ع
ضا و معجب					

کلمہ شہجون سے نکال کر لیا گیا ہے

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
علاج - ع	پاتھنی دانت	عجلت - ع	جلدی	عزت - ع	گوشہ گیری -
عسرت - ع	مشکل	عشا - ع	طعام شب	عشا - ع	شب کوری
عارض - ع	گال	عقیق - ع	آزاد	عساکر - ع	شکرتا
عدیم - ع	نا پیدا	عبور - ع	گزرنا	عطشہ - ع	چینک
غین معجبہ					
غایت - ع	پہنایت	غزالہ - ع	آہو	غذیر - ع	تالاب
غضیر - ع	پہت	غماز - ع	پھلخور	غیاث - ع	فریاد رس
غل - ع	کینہ	غرفہ - ع	دریچہ	غریق - ع	دوبابہوا
غضران - ع	گناہ کا معاکرنا	غریو - ف	شور	غوج - ت	میں گدا
غوجہ - ت	سرنگی کلنی	غریل - ت	چلمنی	غمام - ع	ابرہ
الفار					
فائق - ع	برتر	فرس - ع	گھوڑا	فنیج - ع	خوف -
فسخ - ع	تور دینا	فرق - ع	ٹانگ	فیسوف - ع	قطمندی
فلاح - ع	خیر و نیکی	فطرت - ع	پیدائش	فکیفت - ع	پس کیونکر
فوق - ع	بالا	فجور - ع	گنہ کرنا	فکار - ف	زخمی
فوت - ت	پھونکنا	فتق - م	پستہ	فترکہ - ع	شکار بند

غیر معجبہ

غیر معجبہ

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
کوکلتاش	برادر رضاعی	کوک	میب - روٹی	بجیک	کاپیالہ
کاف فارسی					
گاز	فنیچی	گام	قدم	گزان	زیادہ گوئی
گرامی	بزرگ	گیسو	چوٹی	گیتی	دنیا
گلو	گلا	گرداب	بجنور	گردباد	بگولا
گلبن	دشت کتاب	گردون	آسمان	گاہ گاہ	کبھی کبھی
گزمہ	ت گشت	گلمق	گشت	گزمت	پھرنا
لام					
لسان	زبان	لابہ	خوشامد	لاجرم	ناچار
لابد	ضرور	لابالی	بے پروا	لب	خلاصہ
نخم	گوشت	لامع	روشن	لوف	آلودگی
لیم	سحل	لقا	دیدار	لیت و لعل	ڈھیل
لق	ڈھیل	للا	اوستاد	لوتک	ایک قسم کی کشتی
میم					
مانوڑ	گرفتار	مالوف	الفت کیا گیا	مشمون	ہشت پہلو
مجبوب	پوشیدہ	مجبوس	مقبض	مخاڑی	روبرو

بجیک کاپیالہ
کوکلتاش برادر رضاعی
گاز فنیچی
گرامی بزرگ
گلو گلا
گلبن دشت کتاب
گزمہ ت گشت
گلمق گشت
گزان زیادہ گوئی
گیتی دنیا
گردباد بگولا
گردون آسمان
گاہ گاہ کبھی کبھی
گزمت پھرنا

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
محیط - ۶	احاطہ کرنیوالا	دور - ۶	گول	مفتون - ۶	عاشق
مقلد - ۶	پیرو	مکنت - ۶	سرواری	ملتمس - ۶	عرض کرنیوالا
مات - ت - ت	حیرت	مہتر - ت	سائیس	مبذول - ۶	خرچ کیا گیا -
نون					
نہم البیل - ۶	بہتر بدلا	نصیر - ۶	مددگار	نطق - ۶	بولنا -
نہیم - ۶	مصاحب	نضات - ۶	تازگی	نفاذ - ۶	جاری ہونا
نہکت - ۶	بونی خوش	نیر اعظم - ۶	آفتاب	نوحہ - ۶	رونا
نغمہ - ۶	راگ	نہال - ف	درخت	نوید - ف	خوشخبری
نانہ - ت	مان	نوبہ - ت	وقت	نخ - ت	تاگا -
واو					
وہید - ۶	تنہا	وعید - ۶	وعدہ عذاب	وہور - ۶	زیادتی
وہل - ۶	کھیڑ	وائق - ۶	مضبوط	وضع - ۶	رکھنا
وقفہ - ۶	ٹھراؤ	وقاعت - ۶	بے شرمی	وافی - ۶	پورا
وہوش - ۶	چوچی بنگلی	وجاہت - ۶	روواری	وحی - ۶	پیغام خدا
ہامی ہوز					
ہدف - ۶	نشاندہ	ہجرت - ۶	جد ہونا	ہمت - ۶	ارادہ پر آمادہ ہونا

لفظ	معنى	لفظ	معنى	لفظ	معنى
هدیه	ع	تحفہ	ہزیمت	ہمتا	ف
ہمد	ف	رفیق	ہویدا	ہرزہ	ف
ہنگی	ف	تامی	ہراس	ہرچند	ف
یائی تحتانی					
یثرب	ع	دینہ	یا قوت	یہوست	ع
یزک	ف	قراول	یوز	یا قوت	ف
یورش	ت	جمہ و شمن کرنا	یال	یا بو	ت
یساؤل	ت	نقیب	یساق	یل	ت
یشم	مب	پتھر	یلیمق	ینغا	ف
مختلف اللفظ و متحد المعنى لغوی مترادف					
الف					
<p>ومع - اکنو - اشک - سرشک - اتمام - آخر - اختتام - الفرام - تمام - انجام - ختم - تام - احسن - اچھا - مستحسن - سعید - مسعود - محمود - فائق - فلک - آسمان - سپہر - گردون - نیلی رواق -</p>					
بائی موصدہ و ز معنی					

یہاں سے لے کر نیچے تک

جنت - بہشت - فردوس - خلد - عدن - وار النعیم - وار السلام - وار القرار
 روضہ - باغ - حدیقہ - بوستان - گلستان - چمنستان - گلشن - گلزار -
 انتقام - بدلہ - قصاص - مکافات - پاداش - معاوضہ - عوض - جزا -
 تلافی - جبر نقصان - تدارک -
 عبادت - بندگی - عبودیت - پرستش -

بامی فارسی در معنی

قدح - پیالہ - ساغر - جام - کاسہ -
 قدس - پاکیزگی - نزاہت - تقدس - مقدس - پاک - میرا - منزہ - طاہر - مطہر -
 رشول - پیغمبر - نبی - مرسل -
 احترام - پرہیز کرنا - اجتناب - تجنب -
 تقوی - پرہیزگاری - زہد -

تامی فوقانی و تامی ہندی در معنی

حمد - تعریف - نعت - ثنا - مدح - صفت - وصف - تحسین - ستائش
 سیف - تلوار - تیغ - صمصام - شمشیر - صارم - حمام -
 سونقات - تحفہ - ہدیہ - ارمغان - پیشکش -
 لخت - تکہا - رقعہ - قطعہ - پارہ -

جمہم عربی در معنی

<p>خامی معجزه در معنی</p>	<p>روح - جان - دم - روان - نفس شجر - بھاڑ - درخت -</p>
<p>نشاط - خوشی - انبساط - بھجت</p>	<p>کاذب - جوڑھا - کذاب - ورنگو</p>
<p>مسرت - فرحت - بشاشت</p>	<p>سرعت - جلدی - عجلت - تعجیل</p>
<p>عادت - خو - سیرت - خصالت</p>	<p>ہیم فارسی در معنی</p>
<p>نمیقہ - خط - عریضہ - صحیفہ - نامہ - مکتوب</p>	<p>صغیر - چھوٹا - کہہ - کوچک - خرد -</p>
<p>میل - خواہش - رغبت - شہوت - اشتہا</p>	<p>خفیمہ - چھپا ہوا - مخفی - مستور - محبوب - پنهان</p>
<p>وال مہملہ و وال ہندی در معنی</p>	<p>شاطر - چالاک - چست - چابک -</p>
<p>شوکت - دبدبہ - شکوہ - تجمل</p>	<p>سرقہ - چوری - سرقت - دزدی -</p>
<p>حشمت - شان - کروفر -</p>	<p>حامی مہملہ در معنی</p>
<p>ذکی - دانا - زیرک - دانشمند</p>	<p>طاعت - حکم ماننا - فرمانبرداری -</p>
<p>خردمند - عقلمند -</p>	<p>کیفیت - حال - خبر - حقیقت - اجرا</p>
<p>ویر - دیول - تنجانہ - کنشت -</p>	<p>ساختہ - حادثہ - واقعہ -</p>
<p>تفحص - دھونڈھنا - تجسس - تفتیش</p>	<p>داوری - حکومت - امارت - داروگیر -</p>
<p>رامی مہملہ در معنی</p>	<p>مولع - حارص - طامع -</p>
<p>طریق - راہ - سبیل - صراط -</p>	<p>القصدہ - حاصل کلام فی الجملہ</p>
<p>نغمہ - راگ - غنا - سماع - سرود -</p>	<p>قصہ کوتاہ -</p>
<p>یومیہ - روزینہ - وظیفہ - کفاف -</p>	

زائمی معجمه در معنی	ظائمی معجمه در معنی
روز - زمانه - دیر - روزگار - عصر -	پدید - ظاہر - بویدا - آشکارا -
جریح - زخمی - مجروح - خسته - فگار -	چور - ظلم - تعدی - جفا -
سین مہملہ در معنی	اظہار - ظاہر کرنا - اعلان - تشریح - تصریح
تحقیق - سچ - فی الحقیقت - فی الواقع - واقعی	عین مہملہ در معنی
موجب - سبب - چیت - علت - باعث	والش - عقل - رای - فرہنگ -
تعلیم - سکمانا - تلقین -	اعزاز - عزت - وقار - توقیر - آبرو -
شین معجمه در معنی	مسکین - عاجز - خاکسار - ناچار
عجالت - شرمندگی - انفعال - شرمساری	فرومانده -
ابتدا - شروع - افتتاح - عنوان	غین معجمه در معنی
آفساز - ویباچہ -	قہر - غصہ - غضب - عتاب -
صا و مہملہ در معنی	غیظ - طیش - خشم -
فجر - صبح - صباح - بگاہ - باداد	حزین - غمگین - غمناک - مغموم -
ضاد معجمه در معنی	فا - در معنی
لابد - ضرور - لاجرم - لامحالہ - ناچار -	تفکر - فکر - تامل - تردد -
ظائمی مہملہ در معنی	نفع - فائدہ - تمتع - سود
چائپ - طرف - چیت - سمت - نواح	منفعت -

<p>کسوت - لباس - لباس - لبوس - حد پوشش - پوشاک - یعنا - لوٹ - غارت - تاراج - مستحق - لائق - مستوجب - سزاوار - فراخوار مزلوچور - لکھا ہوا - موسوم - مرقوم - مسطور</p>	<p>قاف در معنی حشر - قیامت - یوم الحساب - یوم الجزا یوم القیام - یوم القدر - کلک - قلم - خامہ - مطرب - قوال - رامشگر - وستان سرا</p>
<p>میم در معنی ناصر - دوکار - معاون - ظہیر - نصیر - دستگیر - میمون - مبارک - ہایون - نجستہ - ارجمند - فرخ - شاہد - معشوق - صنم - دلربا - ولستان</p>	<p>کاف عربی در معنی عسس - کوتوال - شحنے - میر شیب - رون - کینہ - ناکس - سفلہ - فرومایہ - بیت اللہ - کعبہ - بیت الحرام - قبلہ بیت عتیق - غرلت - کونا - زاویہ - کنج - گوشہ</p>
<p>نون در معنی ہدف - نشاء - آماج - نسب - نسل - نژاد - واو در معنی وکتور - وزیر - رای زن - وساطت - وسیلہ - واسطہ - ذریعہ - توسل</p>	<p>کاف فارسی در معنی دلق - گوڑھی - مرقع - خرقدہ - قریہ - گانون - قصبہ - وہ - موضع - مرکب - گھوڑا - فرس - رخس اسپ - بارگی - جینت -</p>
<p>لام در معنی</p>	<p>لام در معنی</p>

شہر آب انگوری - دل عاشق کا۔	چہت - واسطے - بہر - برائے - بنا بر۔
باسی عربی و فارسی	با - ورمعنی
بندف - قید - فکر - تدبیر - قفل - بند جا۔	بلی - ہان - نعم - آری۔
پازن - پیر - تکرار - رجوع - کشادہ۔	ووام - ہمیشہ - دمام - ابدآ - جاوید۔
خراج - جانور شکاری۔	آہو - ہرن - غزال۔
باب ۶ - دروازہ - شایستہ - مقدمہ	یائی تختانی ورمعنی
نام کتاب - پدر۔	حفظ - یاد - ضبط - ازبر۔
باوت - ہوا - تکبر - تند - ہوجو۔	احد - یک - واحد - فرد۔
پریت - سینہ - گوو - بغل - اوپر - نزدیک	وقفہ - یکایک - ناگہان۔
بارف - پھل - بوجہ - دخل - مرتبہ۔	متی اللفظ و مختلف المعنی
میوہ - حمل زنان - بارندہ۔	حرف الف
برگ - ف - پتا - ساز - سامان۔	ابریق - چھاگل - روشن - تلوار چمکدار
پوستین - قبائی - چرم - عیب - مذمت	عورت خوبصورت۔
پاس - ف - پیر - نگہداشت - واسطے	
تائی فوقانی	ارکان ۶ - جمع رکن بمعنی ستون - وزیر
تاب - ف - طاقت - رونق - گرمی۔	اعیان ۶ - امرا - چشمے - آنکھیں -
تکلم - ع - بیدلیل دعویٰ کرنا - غلبہ کرنا	ابگینہ ف - کانسج - شیشہ - بلور

<p>حاجب - ع - دربان - چو بدار - پروہ دار ابرو - عرض بیگی -</p>	<p>حکومت بزور کرنا - بجمل - ع - آراستگی - و بدبہ - جمال -</p>
<p>حکیم - ع - دانا - استوار - راست کار صاحب حکمت -</p>	<p>ثامی مثلثہ</p>
<p>حضرت - ع - حضور - درگاہ - کلمہ تعظیم حریف - ع - ہم نشین - ہم پیشہ -</p>	<p>ثمر - ع - میوہ - مال - زر - فرزند - نتیجہ - شرآ - ع - دولت - مال - مٹی -</p>
<p>حرف - ف - سخن - عیب - کنارہ - لب خامی معجمہ</p>	<p>حیم عربی و فارسی</p>
<p>خطر - ع - ڈر - اندیشہ - مرتبہ - آفت - خال - ع - تل - آبلہ - غور - عقل - مامون -</p>	<p>حبیب - ع - گریبان - پیرمن - دل - جد - ع - دادا - نانا - نصیب - توانگری -</p>
<p>خوروہ - ف - ریزہ - عیب - باریکی - چنگاری - کہا یا ہوا -</p>	<p>جر - ع - حرکت زیر - کھینچنا - گناہ کرنا - ظرف آب - شگاف زمین -</p>
<p>خستہ - ف - خراب - زخمی - بیمار - شکستہ - مفلس - وال مہملہ</p>	<p>جناح - ع - بال مرغ - بازو - مقدر لشکر چابک - ف - چالاک - جلد - کوڑا -</p>
<p>وسقور - ف - قانون - آئین - اجازت وزیر - اسیر -</p>	<p>چارہ - ف - علاج - تدبیر - کر - چنگ - ف - ہاتھ - نام ساز -</p>
<p>وہم - ف - نفس - وقت - بخورڈا گھونٹ</p>	<p>چشم - ف - آنکھ - اسید - چون - ف - جب - مانند -</p>
	<p>خامی مہملہ</p>

راجح۔ ع۔ افزون۔ غالب۔ فائق۔ بہتر	فہریب۔ افسون۔
زای مجہ عربی و فارسی	و مدد۔ ف۔ کرفریب۔ نقارہ۔ ڈھول
زہار۔ ف۔ پناہ۔ ہرگز۔ تاکید۔ پیمیز	شہرت۔ برج۔ زلزلہ۔
امان۔ مہلت۔	دست۔ ف۔ ہاتھ۔ قدرت۔ فائدہ
زمان۔ ع۔ ساعت۔ زمانہ۔ عہد۔	غلب۔ مکر۔ سند۔
زاد۔ ف۔ جنا۔ پیدا کیا۔ توشہ۔ راہ کا خرچ	واہم۔ ف۔ قسم سکہ۔ چارپائی۔ پھندا۔
زبون۔ ع۔ بدتر۔ بیوقوف۔ عاجز۔ بیچار	درست۔ ف۔ صحیح۔ اشرفی۔
ژند۔ ف۔ گذری۔ پرانا۔ ٹکڑا۔	دو۔ ف۔ دیوان۔ غم۔ رنج۔ سالش۔
ژار شرف۔ پیہودہ بات۔ خاردار گھاس	ذال معجمہ
جو اونٹ کھاتا ہے۔	ذوق۔ ع۔ چکھنا۔ مزہ۔ خوشی۔
سین مہملہ	ذکا۔ ع۔ عقل۔ تیزی طبع۔ دانائی۔
سرننگ۔ ف۔ سردار لشکر۔ پیشرو لشکر	ذات۔ ع۔ صاحب۔ اصل یعنی مرجع صفات
نقیب۔ چوہدار۔ پہلوان۔ کوتوال	زای مہملہ
سمر۔ ع۔ افسانہ۔ خبر۔ مشہور۔	رشتہ۔ ف۔ تاگا۔ نارو۔ قرابت۔
سرگران۔ ف۔ خفا۔ غصہ۔ در۔ متکبر۔	راعی۔ ع۔ نگہبان۔ والی۔ حاکم۔ پروا
سما۔ ف۔ مانند۔ مشابہ۔ موافق۔	رعنا۔ ع۔ رنگ بزرگ۔ زیبا۔ خود آرا۔
سابق۔ ع۔ اگلا۔ بڑا ہوا۔ سبقت لیجانیوالا	راح۔ ع۔ شراب۔ شاد ہونا۔ خوشی۔

<p>صا و جمہ</p>	<p>سمت - ۶ - طرف - جہت -</p>
<p>ضرب - ۶ - مارنا - بیان کرنا - ملانا -</p>	<p>صورت - راہ راست -</p>
<p>ضمیر - ۶ - پوشیدہ - بھید -</p>	<p>سین جمہ</p>
<p>ضلع - ۶ - پسی - پہلو کی پٹی - سلطنت کی شاخ -</p>	<p>ست ف - گل - گرفت سونوار - انگوٹھا - یہ مخفف ہے نشیما کا</p>
<p>طائی مہلہ</p>	<p>شور - ف - کھارا - پکارا - فتنہ</p>
<p>طرف - ۶ - جانب - کنارہ - حصہ</p>	<p>شہرت - آواز بلند - جنون</p>
<p>طرح - نمونہ -</p>	<p>شاطر - ۶ - چالاک - قاصد - شطرنج باز</p>
<p>طبقہ - ۶ - درجہ - جماعت آدمیوں کی طبقہ</p>	<p>شوخی - تیر انداز -</p>
<p>طاق - ۶ - محراب - روئی دار جبہ - پتھان</p>	<p>شبیہ - ۶ - مثل - مانند - تصویر - ڈھانچ</p>
<p>طلاوت - ۶ - ترقی تازگی - خوبصورتی - رونق</p>	<p>شہوت - ۶ - خواہش - آرزو - شوق</p>
<p>طامی مجبہ</p>	<p>لذت - نفع - بھوک - خواہش</p>
<p>ظرافت - ۶ - انانی - خوش طبعی -</p>	<p>صا و مہلہ</p>
<p>عین مہلہ</p>	<p>صاحب - مالک - دوست - خداوند -</p>
<p>عزیز - ۶ - دوست - عزتمند -</p>	<p>صدر - ۶ - مسند - سینہ - اول -</p>
<p>مرغوب - کیا ب - غالب -</p>	<p>صولت - ۶ - ودبہ - رعیب - ہیبت -</p>
<p>عقد - ۶ - گرہ - پیمان - نکاح -</p>	<p>صرف - ۶ - خرچ کرنا - گردش زمانہ کی -</p>

<p>نام موضع۔ قانون۔ ع۔ مسطر کتاب کا۔ اصل ہر شے کی شروع۔ دستور۔ اندازہ۔</p>	<p>بیچ۔ عہد۔ بساط۔ شطرنج عہدہ۔ ع۔ منصب۔ رتبہ سرکاری۔ ذمہ غین مجسمہ</p>
<p>کاف عربی و فارسی</p>	<p>غلام۔ ع۔ کوڑک۔ نوکر۔ بندہ۔</p>
<p>کوکبہ۔ ع۔ ستارہ۔ جماعت۔ انتہہ حشمت۔ بزرگی۔</p>	<p>غریب۔ ع۔ نادری۔ مسافر۔ بے وطن غرض۔ ع۔ مطلب۔ نشانہ مقصود جہا غایت۔ ع۔ مطلب۔ غرض۔ انتہا۔ آخر</p>
<p>گوہر۔ ف۔ ذات۔ اصل ہر چیز موتی جوہر شمشیر۔ فرزند۔</p>	<p>الفاء</p>
<p>گران۔ ف۔ بہاری۔ مہنگا۔ کام۔ ف۔ مقصد۔ حلق۔ کیش۔ ع۔ مذہب۔ عادت۔</p>	<p>فتنہ۔ ف۔ عذاب۔ دیوانگی۔ عاشق۔ فریقیت۔ ف۔ فریب۔ ناز۔ مکر۔ وغا۔ طلسم فرق۔ ف۔ مانگ۔ سر۔ جدا کرنا۔</p>
<p>لاہم</p>	<p>فراز۔ ف۔ پھیلا ہوا۔ آگے۔ کشادہ</p>
<p>لطف۔ ع۔ نرمی۔ مہربانی۔ لطیف</p>	<p>نزدیک۔ بلند۔ نشیب۔</p>
<p>کرم پرور۔ پاکیزہ۔</p>	<p>قاف</p>
<p>لخت۔ ف۔ ٹکڑا۔ تھوڑا۔ گرز آہنی۔</p>	<p>قطب۔ ع۔ میخ آسیا۔ سردار قوم۔</p>
<p>لاغر۔ ف۔ ضعیف۔ دبلا۔</p>	<p>سردار اولیائی زمانہ۔ نام ستارہ</p>
<p>لابہ۔ ف۔ نہایت عاجزی و اپنی جہت کا ظاہر</p>	<p>قرن۔ ع۔ سینگ۔ گیسو۔ مدت تسی سال</p>

<p>واو</p>	<p>چرب زبانی۔ چالپوسی۔ فریب کرنا</p>
<p>والی۔ ع۔ دوست۔ حاکم۔</p>	<p>صمیم</p>
<p>مالک۔ ع۔ خویش۔</p>	<p>بسیلغ۔ ع۔ جائی رسیدن۔ رقم۔</p>
<p>واقعہ۔ ع۔ افتاد۔ جنگ۔</p>	<p>مقام۔ مقدار۔</p>
<p>حادثہ۔ مرنا۔ حال۔</p>	<p>مشتری۔ ع۔ خریدار۔ نام ستارہ</p>
<p>وار۔ ف۔ مانند۔ لایق۔ طرز۔</p>	<p>مالک۔ ع۔ صاحب۔ خداوند۔ مالک</p>
<p>وسور۔</p>	<p>نام اوس سوداگر کا ہے جس نے</p>
<p>وبال۔ ع۔ سختی۔ گرانی۔</p>	<p>حضرت یوسف علیہ السلام کو اونکے</p>
<p>عذاب۔ بوجہ۔</p>	<p>بہائیوں سے خریدا تھا۔ اور</p>
<p>وراحی۔ ع۔ سوا۔ پیچھے۔</p>	<p>نام موکل و وزخ کا۔</p>
<p>جانب۔ بدون۔ وغیرہ۔</p>	<p>نون</p>
<p>نامی ہوز</p>	<p>نہا۔ ف۔ رکھا۔ ذات۔</p>
<p>ہمسر۔ ف۔ برابر۔ زوجہ۔</p>	<p>نتایج جمع نتیجہ یعنی بچگان۔</p>
<p>ہمت۔ ع۔ عزم۔ ارادہ بلندہ۔</p>	<p>نبات۔ ع۔ گھاس۔ سبزہ مصری</p>
<p>اندازہ۔</p>	<p>درخت۔</p>
<p>ہیف۔ ع۔ سختی۔ تشنگی۔</p>	<p>ناموس۔ ع۔ عصمت۔ نیکنامی</p>
<p>گرم ہوا۔</p>	<p>احکام الہی۔ جبریل علیہ السلام۔</p>

<p>بامی موحدہ</p>	<p>پوشش - ف - دانائی - زیرکی</p>
<p>پرود - ف - یگیا - پرو - ع - جاڑا</p>	<p>جان - موت -</p>
<p>براق - ع - چمکدار -</p>	<p>یامی سختانی</p>
<p>براق - ع - سواری نبی صلعم</p>	<p>یورش - ت - حملہ - جلدی -</p>
<p>بہ شب معراج -</p>	<p>کوچ -</p>
<p>بست - ف - باندا - بست - ف - بست</p>	<p>یعنا - ف - لوٹ - نام شہر -</p>
<p>تامی فوقانی</p>	<p>متی اللفظ مختلف الحركات</p>
<p>تارک - ف - مانگ -</p>	<p>الف</p>
<p>تارک - ع - چھوڑنیوالا -</p>	<p>آشرف - ع - پہلی بالنس -</p>
<p>تارک - ف - چھوڑنا -</p>	<p>اشراف - ع - جماعتگنا -</p>
<p>تارک - ف - نام قوم -</p>	<p>النس - ع - آدمیان یہ مغرب ہے</p>
<p>تنگ - ف - کوتاہ -</p>	<p>بمعنی جمع -</p>
<p>تنگ - ف - کوزہ -</p>	<p>النس - ع - الفتہ - دلہی -</p>
<p>تامی مثلثہ</p>	<p>اسناد - ع - جمع سند -</p>
<p>شمن - ع - قیمت - شمن - ع - آٹھواں حصہ</p>	<p>اسناد - ع - ایک چیز کو ایک چیز</p>
<p>شمن - ع - فراغت -</p>	<p>سے نسبت دینا -</p>
<p>شمن - ع - ہوشیاری - شمال - ع - پناہ</p>	

شمال۔ ع۔ زہر قاتل۔	ذوال معجبہ
جیم عربی	ڈگا۔ ع۔ تیزی ذہن۔ ڈکا۔ ع۔ آفتاب۔
جد۔ ع۔ دادا۔ جد۔ ع۔ کوشش۔	ذرا ب۔ ع۔ زہر۔ ذرا ب۔ ع۔ تیز کرنا۔
جرم۔ ع۔ گناہ۔ جرم۔ ع۔ جسم۔	ڈرتی۔ ع۔ بڑی آبدار تلوار۔
جیلی۔ ع۔ طبی۔ جیلی۔ ع۔ پہاڑی۔	ڈڑی۔ ع۔ ہوا کا خاک کو لیجانا۔
حامی مہملہ	رائی مہملہ
حین۔ ع۔ وقت۔ حین۔ ع۔ موت۔	روان۔ ف۔ جاری۔ بہتا ہوا۔
حب۔ ع۔ گولی۔ حب۔ ع۔ محبت۔	روان۔ ف۔ جان۔
حسن۔ ع۔ خوبصورتی۔ حسن۔ ع۔ نیک۔	رستین۔ ف۔ اوگنا۔ رستین۔ ف۔ چھوٹنا۔
خامی معجبہ	رفتن۔ ف۔ جانا۔ رفتن۔ ف۔ جہازنا۔
خلف۔ ع۔ بیٹا۔ خلف۔ ع۔ خلاف عدہ۔	زامی معجبہ
ختم۔ ف۔ چھکا ہوا۔ ختم۔ ف۔ گولی۔	زین۔ ع۔ آراستگی۔ زین۔ ف۔ گھوڑیکاز۔
خلق۔ ع۔ خلقت۔ خلق۔ ع۔ مخلوق۔	زاو۔ ع۔ مسافر۔ زاو۔ ف۔ زاد۔
وال مہملہ	زور۔ ع۔ کر۔ زور۔ ف۔ طاقت۔
ور۔ ف۔ اندر۔ ور۔ ع۔ موتی۔	سین مہملہ
ورج۔ ع۔ داخل کرنا۔ ورج۔ ع۔ ڈبہ۔	سخر۔ ع۔ صبح۔ سخر۔ ع۔ جادو۔
وروف۔ ف۔ ڈگم۔ وروف۔ ف۔ تلپٹ۔	سراج۔ ع۔ چراغ۔ سراج۔ ف۔ زین گہ۔

عیار - ع - کسوٹی لگانا - عیار - ع - تولنا	سُم - ع - زہر - سُم - ع - کھرو پاپہ - کا -
جانچنا - عیار - ع - مرد چالاک -	شین مجسمہ
عین - ع - آنکھ -	شب - ف - رات - شب - ع - پشگری
عین - ع - جمع ہو عینا کی زبان خوش قسم	شرط - ع - عہد و پیمانہ - شرط - ع - ہوا موافق
غین مجسمہ	شباب - ع - جوانی - شباب - ع -
غزہ - ع - روشن چہرہ -	پھونکنی - گھوڑکی کلیں -
غزہ - ع - غفلت -	صا و مہملہ
غیبت - ع - غائب ہونا -	صلوات - ع - بخشش - صلاۃ - ع -
غیبت - ع - پس پشت بڑا کہنا -	نماز و درود -
غنا - ع - گہنا باغ - گانا -	صبح - ع - صبح - صباح - ع - حسین
غنا - ع - تو انگری -	صرف - ع - خرچ کرنا - صرف - ع - ہر شی خالص
الفا	طائی مہملہ
فلک - ع - آسمان - فلک - ع - کشتی	طور - ع - وضع - طور - ع - نام پہاڑ -
قاف	طول - ع - درازی - طول - ع - بخشش
قوت - ع - طاقت - قوت - ع - کھانا -	عین مہملہ
قمری - ع - منسوب بہ قمر -	عجب - ع - تعجب - عجب - ع - غرور -
قمری - ع - ایک مشہور پندہ ہواختہ کی قسم	عقاب - ع - مرغ شکاری - عقاب - ع - غذا

قدر - ع - اندازه - مرتبه -	ملک - ع - جاگیر -
قدر - ع - تقدیر - قدر - ع - ہانڈی	مخاطب - ع - خطاب کرنے والا -
کاف عربی	
کلمہ - ف - کھوپڑی -	مخاطب - ع - خطاب کیا گیا -
کلمہ - ع - چھروان -	مرغ - ف - پرندہ - مرغ - ف - ایک قسم کا گھانس جو ہندی میں (دوب) کہتے ہیں
نون	
کشف - ع - غیبی واقعات کا معلوم ہونا	نور - ع - روشنی - نور - ع - کلی -
کشف - ع - تانبیل -	نقل - ع - روایت قصہ - نقل - ع - گزرگ
کرم - ف - کیرا - کرم - ع - عنایت فیض	نخلہ - ع - شہد کی مکھی - نخلہ - ع - عطیہ -
کاف فارسی	
گل - ف - پھول - گل - ف - مٹی -	واو
گرو - ف - وصول - گرو - ف - چار طرف	وتر - ع - طاق - وتر - ع - زہ کمان کی
گزیدہ - ف - پسندیدہ - گزیدہ - ف - کاٹا ہوا	ورو - ع - گل سرخ -
لام	
لرب - ف - ہونٹ لب - ع - خلاصہ -	ورد - ع - ہر روز کا کام -
میم	
لنگ - ف - لنگڑا - لنگ - ف - لنگی -	ہما - ف - تمام چیز - ہما - ف - نام پرند -
میم	
ملک - ع - پادشاہی - ملک - ع - فرشتہ	ہاجر - ع - جدائی - ہاجر - ع - تھوڑا بہو دگیا
	ہشت - ف - چھوڑا ہشت - ف - آٹھ

یامی تختانی

یمن - ع - نام ولایت - یمن - ع - برکت -

واحد و جمع عربی مع اوران جمع

واحد	جمع	اوران جمع	واحد	جمع	اوران جمع	واحد	جمع
فرقة	فرق	فرق	اسطوره	اساطیر	افاعیل	کہانی	کہانی
محنت	محن	محنت	رکن	در اکین	ساقون	ساقون	ساقون
آلت	طل	طل	حاکم	مخاکم	حکومت کنوالا	حکومت کنوالا	حکومت کنوالا
طالب	طلبة	طلبة	خادم	مخدّام	نوکر	نوکر	نوکر
فخائن	مخفد	مخفد	ساکن	مساکن	باشنده	باشنده	باشنده
جاہل	جمہ	جمہ	نبی	انبیا	خبر و منیوالا	خبر و منیوالا	خبر و منیوالا
عبد	عباد	عباد	ولی	اولیا	ولی	ولی	ولی
صغیر	صغار	صغار	ذکی	اذکیا	تیز و من	تیز و من	تیز و من
رجل	رجال	رجال	قندیل	قنادیل	قندیل	قندیل	قندیل
مکان	امکنہ	امکنہ	عصفور	عصافیر	چڑیا	چڑیا	چڑیا

واحد	اوزان جمع	واحد	اوزان جمع	واحد	اوزان جمع	واحد	اوزان جمع
طعام	اطعمه	کھانا	کھانا	قرطاس	قرطاس	قرطیس	قرطاس
شراب	اشربه	پینے کی چیز	پینے کی چیز	مسجد	مسجد	مساجد	مساجد
اقلیم	اقالیم	ملک	ملک	مکتب	مکتب	مکاتب	مکاتب
مصدر	مصادر	جائی صدر	جائی صدر	غریب	غریب	غریبا	غریبا
کتاب	کُتب	کتاب	کتاب	جاہل	جاہل	جہلا	جہلا
رسول	رسل	پیغمبر	پیغمبر	عالم	عالم	علما	علما
طریق	طرق	راستہ	راستہ	اخ	اخ	اخوان	اخوان
فتح	فتوح	فتح	فتح	غلام	غلام	غلمان	غلمان
فلس	فلوس	پیسہ	پیسہ	تاج	تاج	تيجان	تيجان
وجه	وجوه	سبب	سبب	درہم	درہم	درہم	درہم
لطف	الطاف	مہربانی	مہربانی	جوہر	جوہر	جوہر	جوہر
قول	اقوال	بات	بات	بیل	بیل	بلاہل	بلاہل
عمل	اعمال	کام	کام	مقتلح	مقتلح	مقتلح	مقتلح
اکبر	اکابر	بزرگ	بزرگ	مصباح	مصباح	مصباح	مصباح
اقرب	اقارب	نزویک تر	نزویک تر	مکتوب	مکتوب	مکتوب	مکتوب

واحد	جمع	واحد	جمع	واحد	جمع	واحد	جمع
انملہ	انامل	انفعل	انفعل	انفعل	انفعل	انفعل	انفعل
ثابت	ثوابت	ثابت	ثوابت	ثابت	ثوابت	ثابت	ثوابت
لاحق	لواحق	لاحق	لواحق	لاحق	لواحق	لاحق	لواحق
طالب	طوالب	طالب	طوالب	طالب	طوالب	طالب	طوالب
تقریر	تقاریر	تقریر	تقاریر	تقریر	تقاریر	تقریر	تقاریر
تلمیذ	تلامیذ	تلمیذ	تلامیذ	تلمیذ	تلامیذ	تلمیذ	تلامیذ
سلطان	سلاطین	سلطان	سلاطین	سلطان	سلاطین	سلطان	سلاطین
اسطوانہ	اساطین	اسطوانہ	اساطین	اسطوانہ	اساطین	اسطوانہ	اساطین
مادہ لفظ							
<p>مادہ یعنی لفظ کے اصلی حرف (جو اس لفظ کے سب گردانوں میں موجود ہوں۔)</p>							
لفظ	معنی	مادہ	لفظ	معنی	مادہ	لفظ	معنی
الف							
اسراف	خرج بجا سرف	اسراف	سقط	استدعا	چاہنا	دعو	

لفظ اور معنی کے ساتھ

لفظ	معنی	ماده	لفظ	معنی	ماده	لفظ	معنی	ماده
			جمیعت			بائی موحدہ		
ذلیل	خوار	ذلل	شکر	جمع		بصارت	بینائی	بصر
ذکر	اذکر کنیوا	ذکر	حائی مہملہ			برکت	زیادہ ہونا	برک
رای مہملہ			حلاوت	شیرینی	حلو	بشارت	خوشخبری	بشر
رزاق	رزق مہند	رزق	حمیت	غیرت	حمی	تائی فوقانی		
رغبت	خواہش	رغب	حاسد	بدخواہ	حسد	تہذیب	اصلاح کرنا	ہذب
رفیق	دوست	رفق	خائی مجہمہ			تعریف	ستائش کرنا	عرف
زای مجہمہ			خیاط	درزی	خیط	تعلیم	سکھانا	علم
زینت	آرایش	زین	خلوت	تنہائی	خلو	ثامی مشلثہ		
زاہد	پرہیزگار	زہد	نشونت	سختی	خشن	ثابت	مقرر و قیام	ثبت
زحمت	تکلیف	زحم	وال مہملہ			ثواب	جزائی خیر	ثوب
سین مہملہ			ویانت	دینداری	دین	ثقات	مردمان	مستبر و ثوق
ساحر	جادوگر	سحر	دعوی	فریاد	دعو	جیم عربی		
سیلم	سلامت	سلم	دائن	قرض دہند	دین	جودت	خوبی پر خیر	جود
سلوک	راہ چلنا	سلک	وال مجہمہ			جواد	سخی	جود
شین مجہمہ			زکاوت	تیزی دین	زکا			

لفظ	معنی	ماور	لفظ	معنی	ماور	لفظ	معنی	ماور
شرف	بزرگ	شرف	ظامی معجمه			فرضیه	حکیم لازم العمل	فرض
شفیع	شفاعت	شفیع	ظالم	ظلم کرینوا	ظلم	قاف		
شرافت	بزرگی	شرف	ظلمت	اندپیری	ظلم	قیامت	روز محشر	قوم
صا و مهمله			ظہیر	پشت پنا	ظہر	قباحت	بیاضی	قبیح
صداقت	سچائی	صدق	عین مهمله			قناعت	موجود و حاصل چیز پر کفایت	قنع
صاحب	ساختی	صحت	عشرت	خوش زندگی	عشر	کاف عربی		
صابر	میکرینوا	صبر	عیادت	بیمار پیری	عود	کفارہ	گناہ کاروانا کفر	
ضاد معجمه			عالم	جاننے والا	علم	کفران	ناشکری	کفر
ضلالت	گمراہی	ضلل	غین معجمه			کریم	بخشنش کرینوا	کرم
ضمانت	ضامن ہونا	ضمن	غریق	دوباسوا	غرق	لام		
ضعیف	ناتوان	ضعف	غازی	کافر کش	غزود	لطیف	پاکیزہ	لطف
ظامی مهمله			غائب	غیب ہونے والا	غیب	لعنت	رحمت دوری	لعن
طاقت	زور	طوق	الفاء			لازم	ضرور	لزم
طغولیت	لڑکپن	طغول	فضول	زائد	فصل	میم		
طامع	عریض	طمع	فلاح	خوشحالی	فلاح	مشرف	بزرگی پایا	شرف

بزرگی پایا

لفظ	معنی	ماوہ	لفظ	معنی	ماوہ	لفظ	معنی	ماوہ
مملکت	سلطنت	مملک	واو			ہزیمت	شکت	ہزم
معلم	اوستاد	علم	وعید	وعدۂ بد	وعد	ہلاکت	ہلاک ہونا	ہلک
نون			وصول	پہونچنا	وصل	یای تختانی		
ناظر	دیکھنے والا	نظر	واثق	مضبوط	وثق	پوست	خشکی	یس
زامت	پشیمانی	ندم	یای ہوز			یسارت	تونگری	یسر
نصرت	فختمندی	نصر	ہاتف	فرشتہ	ہتف	یتیم	بے پدر	یتیم

یای تختانی

استقاق عربی

کسی لفظ کے اصلی حروف ہوں جو دوسرے لفظ کا بنا

شکر	شکر	شکر	شکر	شکر	شکر	شکر	شکر
شکر	شکر	شکر	شکر	شکر	شکر	شکر	شکر
اسم فاعل			اسم مفعول			صفت مشبہ	
قاتل	قتل سے	مقتول	قتل سے	بزرگ مفعول	کریم	کرم سے	بزرگ مفعول
عادل	عدل سے	منصور	نصرت سے	"	رحیم	رحمت سے	"
فائز	فصل سے	مغرور	غور سے	"	حسین	حسن سے	"

ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت
نام وزن	نام وزن	نام وزن	نام وزن	نام وزن	نام وزن	نام وزن	نام وزن
اسم تفصیل			اسم ظرف			اسم اکہ	
افضل	افضل سے	بزرگ افضل	منرب	منرب سے	بزرگ منرب	سمع	سمع سے
اعظم	اعظم سے	بزرگ اعظم	مسجد	مسجد سے	بزرگ مسجد	مروح	روح سے
اشرف	اشرف سے	بزرگ اشرف	مولد	ولادہ سے	بزرگ مولد	مقراض	قرض سے

اشتقاق فارسی

حروف	موقع	مثال	حروف	موقع	مثال
اسم فاعل			صفت مشبہ		
آن	آخر امر	گریختن	آن	آخر امر	خوشان
ار	مطلق	خرید	ار	ار	افتان
ا	آخر امر	دانا	ا	ا	خیزان
اسم مفعول			اسم تفصیل		
بخش	اول امر	بخش	تر	آخر اسم	فاضل تر
اگند	اگند	قرا	اگند	اگند	کہتر

لفظ	موقع	مثال	لفظ	موقع	مثال
تر	آخر اسم	زود تر۔ زود سے	اسم آلہ		
اسم ظرف					
گاہ	آخر اسم	آرام گاہ۔ آرام سے	زن	آخر اسم	قطران۔ قط سے
گاہ	آخر اسم	رزم گاہ۔ رزم سے	رود		جارود۔ جا سے
گاہ		تخت گاہ۔ تخت سے	گیر		گلگیر۔ گل سے

تحفیات عربی و فارسی

واضح ہو کہ بعضی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بعض اجلی حروف بیکثرت استعمال کیے گئے ہیں اور جو حروف باقی رہ گئے ہیں انہیں ترکیب پر وہ اسم صحیفہ لایا جاتا ہے تفصیل اول کی پھرست میں سے معلوم ہوگی

لفظ اصلی	لفظ اصلی	لفظ اصلی	لفظ اصلی	لفظ اصلی	لفظ اصلی	لفظ اصلی	لفظ اصلی
انہو	انہ	گروہ	کنون	کنون	اب	ایتاد	اشاد
حرفانف	اندہ	اندہ	غم	نگاہ	انگومہ	اوسوت	

لفظ صحابی	استاد	استاد	کپڑا ہوا	سہانی	لفظ صحابی	چون آن	چون آن	ایسا	سہانی
لفظ صحابی	افلاطون	افلاطون	فلاطون نام حکیم	سہانی	لفظ صحابی	چون این	چون این	ایسا	سہانی
لفظ صحابی	ارغنون	ارغنون	سنا نام باج	سہانی	لفظ صحابی	چون او	چون او	مانند اسکے	سہانی
لفظ صحابی	اینک	اینک	اب	سہانی	لفظ صحابی	چار	چار	چار	سہانی
لفظ صحابی	افغان	افغان	شور و فریاد	سہانی	لفظ صحابی	چہل	چہل	چالیس	سہانی
لفظ صحابی	از	از	سے	سہانی	لفظ صحابی	چہرہ	چہرہ	شکل مہینہ	سہانی
لفظ صحابی	الی آخرہ	الی آخرہ	آخر تک	سہانی	لفظ صحابی	چامی	چامی	چامی	سہانی
لفظ صحابی	افسوس	افسوس	حرف تا سفس	سہانی	لفظ صحابی	خورشید	خورشید	خور آفتاب	سہانی
لفظ صحابی	ایضاً	ایضاً	اور بھی	سہانی	لفظ صحابی	خاموش	خاموش	خاموش	سہانی
لفظ صحابی	بامی موحده	جمع	جمع	سہانی	لفظ صحابی	خانہ	خانہ	خان گہر	سہانی
لفظ صحابی	بور	بور	تھا	سہانی	لفظ صحابی	والی	والی	والی	سہانی
لفظ صحابی	بیرون	بیرون	باہر	سہانی	لفظ صحابی	وہاں	وہاں	وہاں	سہانی
لفظ صحابی	بدر	بدر	خراب	سہانی	لفظ صحابی	وہاں	وہاں	وہاں	سہانی
لفظ صحابی	براقطع	براقطع	نام لغت	سہانی	لفظ صحابی	ورگاہ	ورگاہ	ورگاہ	سہانی
لفظ صحابی	بیت	بیت	بیت	سہانی	لفظ صحابی	راہی	راہی	راہی	سہانی

یا علی

تاری توتائی

تاری توتائی

تاری توتائی

تاری توتائی

تاری توتائی

تاری توتائی

لفظ اسکی	لفظ اسکی	لفظ اسکی	لفظ اسکی	لفظ اسکی	لفظ اسکی	لفظ اسکی	لفظ اسکی
راه	ره	راسته	شاخ	شاخ	شاخ	شاخ	شاخ
رحمة الله	ره - رح	راسته	صاد	صاد	صاد	صاد	صاد
رضی الله عنه	رضا	راضی	صبا	صبا	صبا	صبا	صبا
زای	زای	زای	ص	ص	ص	ص	ص
زمین	زمی	مشهور	صلعم	صلعم	صلعم	صلعم	صلعم
زین	زیرا	اسوا	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ستوه	سته	عاجز	عین	عین	عین	عین	عین
سیاه	سید	کالا	عم	عم	عم	عم	عم
سوال	س	سوال	غین	غین	غین	غین	غین
شکوه	شکوه	وید	غیاث	غیاث	غیاث	غیاث	غیاث
شادباش	شادباش	خوش	الشا	الشا	الشا	الشا	الشا
شاه	شاه	پادشاه	فرو	فرو	فرو	فرو	فرو
شرح	ش	بیان	ف	ف	ف	ف	ف

نظائر اسکی	نظائر اسکی	نظائر اسکی	نظائر اسکی	نظائر اسکی	نظائر اسکی	نظائر اسکی	نظائر اسکی
گناہ	گنہ	گنہ	مطلب	مطلب	مطلب	مطلب	مطلب
گروہ	گرہ	گرہ	توں	توں	توں	توں	توں
میم	میم	میم	ناگاہان	ناگاہان	ناگاہان	ناگاہان	ناگاہان
بہ	بہ	بہ	ناگاہ	ناگاہ	ناگاہ	ناگاہ	ناگاہ
مصنف	مصنف	مصنف	نہان	نہان	نہان	نہان	نہان
مقدم و مبتدا	م	م	نشست	نشست	نشست	نشست	نشست
محب اللغات	م	م	نگاہ	نگاہ	نگاہ	نگاہ	نگاہ
مفعول	مف	مف	نسخ	نسخ	نسخ	نسخ	نسخ
مؤخر و خبر	خ	خ	نامید	نامید	نامید	نامید	نامید
مفعول و خبر	ع	ع	واو	واو	واو	واو	واو
مقصد	مقصد	مقصد	ولی یا ولیک	ولی یا ولیک	ولی یا ولیک	ولی یا ولیک	ولی یا ولیک

واضح ہو کہ بعض لفظ اصلی لفظ مخفف سے فصیح تر شمار کئے جاتے ہیں جیسے کوہ شکرہ - ستوہ - انبوہ - ہنوز - ہرگز - لفظ مخفف کہہ سکتے - استہ - انبہ - ہنوز - ہرگز اور بعض الفاظ مخفف اپنی اصل سے فصیح تر زیادہ شمار کئے جاتے ہیں جیسے چنان -

چنین۔ چون۔ ناگہ۔ ناگہان۔ وامن۔ لفظ اصلی۔ چون آن۔ چون این۔ چون
 چو۔ ناگاہ۔ ناگاہان۔ دامان۔ اور بعض لفظ دونوں صورتیں درج مساوات کا
 رکھتے ہیں جیسے اکتوں۔ کتوں۔ خاموش۔ خمش۔ فراموش۔ فرامش۔
 اور یہ الفاظ متحدین اور متوسطین اور متاخرین سب کے محاورہ میں مستعمل
 ہیں۔ بعض الفاظ مختلف متحدین کے ایسے ہیں کہ جنکو متاخرین استعمال نہیں
 کرتے جیسے نہیں۔ نہان سے۔ بہن۔ بہان سے۔ گرہ۔ گرہ سے۔ شند
 شنیدن سے۔ برچن۔ برچین سے۔ آستین۔ آستین سے۔ تاند۔ تاند سے
 سگان۔ سنگ جان سے۔ وقت۔ وقت سے۔ پس۔ پسر سے۔ شلم۔ شلم سے
 جنی۔ جوان سے۔ چشم۔ چشم سے۔ ہنوز۔ ہنوز سے۔ ہگز۔ ہگز سے۔

مرکبات امتراجی

الف

اسکان۔ آس۔ بھئی چکی۔ ان بھئی انڈیا۔ نسبت	ارسلان۔ بھئی شیر۔ بیخہ ڈھپٹ شیر۔
آبگینہ۔ آب و گینہ سے۔ آب بھئی رونق۔	اچھی۔ ایل۔ اورچی سے۔ ایل بھئی خبر۔
گینہ بھئی مشوب یعنی رونق والا۔	چی بھئی صاحب۔ یعنی صاحب خبر۔
الپ۔ ارسلان۔ الپ۔ بھئی دلیر۔	امروز۔ دراصل این روز تھا۔ این بھئی یہ

<p>خامی معجزہ</p>	<p>روز بمعنی دن۔</p>
<p>خورشید۔ خور بمعنی آفتاب۔ شید بمعنی روشنی خانوادہ۔ خان مخفف ہے خانہ کا۔ وادہ بمعنی بناو اصل یعنی خاندان۔</p>	<p>آفتاب۔ آب و تاب سے۔ آب بمعنی رونق۔ تاب بمعنی چمک۔</p>
<p>خویشاوند۔ خویش اور وند سے۔ خویش بمعنی اپنا۔ وند بمعنی منسوب۔</p>	<p>بامی موحده</p>
<p>وال مہملہ</p>	<p>بازار۔ دراصل آبادی تھا۔ ابا بمعنی شو زار بمعنی جائے۔</p>
<p>درویش۔ دراصل در اوید تھا (ز) کوریش سے بدلا۔ (ا) کو حذف کیا درویش ہوا۔ در بمعنی دروازہ۔ آوید بمعنی لٹکا ہوا۔</p>	<p>بازرگان۔ دراصل آبادی بازار تھا۔ ابا بمعنی شوربا۔ زار بمعنی جائے گان بمعنی نسبت یعنی منسوب بہ بازار برخوردار۔ بر بمعنی پھل۔ خور بمعنی لایق۔ دار بمعنی رکبہ۔</p>
<p>درویش۔ در بمعنی موتی۔ ویش بمعنی لٹکا دہقان۔ دراصل دیہی گان تھا۔ وہ بمعنی گانوں۔ گان بمعنی نسبت۔ یعنی منسوب بہ وہ۔</p>	<p>چیم عربی</p>
<p>واور۔ دراصل دادور تھا۔ داد بمعنی انصاف۔ ور بمعنی نسبت یعنی منسوب بہ داد۔</p>	<p>چہان۔ دراصل گہان تھا۔ گہان مخفف ہے گاہان کا۔ گاہ بمعنی وقت اور ان نسبت کا۔</p>
<p>چانور۔ جان بمعنی روح۔ ور بمعنی رکبہ والا چشمید۔ چشم یعنی بہت۔ شید بمعنی روشنی۔</p>	<p>چانور۔ جان بمعنی روح۔ ور بمعنی رکبہ والا چشمید۔ چشم یعنی بہت۔ شید بمعنی روشنی۔</p>

<p>یعنی فسوب بہ شیر۔</p>	<p>زائی مجہدہ</p>
<p>الفا</p>	<p>زمین۔ زم۔ بمعنی تری۔ بین نسبت کا</p>
<p>فیلسوف۔ فیل اور سوف سے بنا۔</p>	<p>یعنی فسوب بہ تری۔</p>
<p>فیل بمعنی دوست۔ سوف علم و حکمت</p>	<p>سین مجہدہ</p>
<p>فیلاسوف۔ فیلا بمعنی دوست وار</p>	<p>سہمکین۔ سہم بمعنی ڈر گین بمعنی ہراسوا</p>
<p>سوف بمعنی علم و حکمت۔</p>	<p>سوگوار۔ سوگ بمعنی ماتم۔ وار بمعنی</p>
<p>فیلقوس۔ پدر سکندر۔ فیلق بمعنی لشکر۔</p>	<p>لایق یعنی غم کرنے والا۔</p>
<p>وس بمعنی امیر۔</p>	<p>سرمنگ۔ سر بمعنی سردار و امیر۔ منگ</p>
<p>قاف</p>	<p>معنی سپاہ۔ یعنی سردار لشکر۔</p>
<p>قراگند۔ قز بمعنی ریشم خام۔ گن مخفف</p>	<p>ششین مجہدہ</p>
<p>آگند کا۔ یعنی ہراسوا ریشم کا۔</p>	<p>شمشیر۔ شمش بمعنی تاشن۔ شیر بمعنی باگہ۔</p>
<p>قزل ارسلان۔ قزل بمعنی سرخ۔ ارسلان</p>	<p>شیر کی (سی) یا بے مچول تھی فصاحت</p>
<p>معنی شیر۔</p>	<p>کیلے بایں معروف بنا دیگی۔</p>
<p>قزل ارسلان۔ قزل بمعنی تنگ۔</p>	<p>شباباش۔ دراصل شاد و باش تھا</p>
<p>ارسلان بمعنی شیر۔ یعنی ننگہ شیر</p>	<p>شاد بمعنی خوش باش بمعنی زہ۔</p>
<p>کاف فارسی</p>	<p>شیر و پیر۔ شیر اور رویہ سے بنا۔ شیر بمعنی</p>
<p>گلن بمعنی پھول۔ بن بمعنی درخت</p>	<p>باگہ۔ رو بمعنی منہ (۵) بمعنی نسبت</p>

<p>تو او سمین حرف مخصوص فارسی کا آنا غلط ہے۔</p>	<p>میم</p>
<p>۲۔ شکوفہ اگرچہ لفظ فارسی ہے لیکن بکاف تازی شکوفہ صحیح ہے۔</p>	<p>مرزبان۔ دراصل مرزوبان تھا۔ مرز بمعنی جائے۔ بان بمعنی صاحب یعنی زمین کا مالک۔</p>
<p>۳۔ ازوقہ۔ یہ لفظ ذوق سے بنا ہے</p>	<p>نون</p>
<p>اصل اسکی ازاقہ تھا او سکوبگاؤ کر فارسی</p>	<p>ناخدا۔ دراصل ناؤ خدا تھا۔ ناؤ بمعنی کشتی۔ خدا بمعنی صاحب۔</p>
<p>۴۔ ازوقہ بنا لیا ہے۔ معنی اسکی کھانا ہے</p>	<p>واو</p>
<p>۵۔ رستم بضم رائی مہلہ جو نام پہلوان</p>	<p>وصلی۔ مرکب ہے وصل اور یائی</p>
<p>ایران ہے محض غلط مشہور ہے۔</p>	<p>نسبت سے۔ وصل یعنی جوڑا اور ملاپ</p>
<p>کس لئے کہ صحیح نام اوسکا بفتح رائی</p>	<p>رسی، بمعنی منسوب۔</p>
<p>مہلہ یعنی رستم ہے۔ اور وجہ اس شمیرہ</p>	<p>ہامی ہوز</p>
<p>کی یہ ہے کہ جب اوسکی مان (رودابہ)</p>	<p>ہمان۔ اسکی اصل ہے۔ ہم اور آن سے</p>
<p>دختر معراب کا بی کو دروزہ شروع ہوا تھا</p>	<p>در بیان صحت بعض الفاظ فارسی</p>
<p>تو شدت درد سے نوبت بجان پہنچی</p>	<p>۱۔ لفظ نکہت بکاف فارسی مشہور ہے</p>
<p>تھی لیکن جب وضع حمل کیا تو بے اختیار</p>	<p>لیکن اصل میں نکہت بکاف عربی ہے</p>
<p>زبان فارسی میں جو اوسکی زبان داری</p>	<p>کس لئے کہ جب وہ خود لفظ عربی ہے</p>
<p>تھی لفظ رستم یعنی میں نے تکلیف درد سے</p>	

<p>وہ باغ جس میں نوشیروان داوری کیا کرتا تھا کثرت استعمال سے الف باغ کا گر گیا بفا اور گیا۔</p>	<p>ربائی پائی منہ سے نکلا چنانچہ لوگوں نے وہی نام اوس کے لڑکے کا رکھ دیا ورنہ اوس کا دوسرا نام تہمتن تھا۔</p>
<p>۸۔ بدعوش بواؤ معروف درست ہے کس لئے کہ یہ مصدر و ہشت کا اسم مفعول ہے جسکی معنی بخود بدعوش ہونے کے ہیں۔</p>	<p>۶۔ لفظ نوشیروان جو نام پادشاہ ایران ہے غلط مشہور ہے کس لئے کہ نام اوس کا نوشین روان ہے اور وہ اس تسمیہ کی یہ ہے کہ قبل از ولادت اسکے</p>
<p>۹۔ الفاظ مفصلہ ذیل میں اگرچہ قاف آیا ہے مگر وہ عربی نہیں ہیں بلکہ ترکی ہیں جیسے قلیان۔ بمعنی حقہ۔ قلیان بمعنی بھڑوا۔ قلی بمعنی غلام۔ قلیچی</p>	<p>باپ نے تمام سامان عیش و طرب مہیا کر لیا تھا جب ثروہ تولد فرزند اوس کے گوش زد ہوا فوراً کار پر دازان مجلس طرب کو حکم دیا کہ نوشین روان یعنی</p>
<p>بمعنی خدمتگار۔ قلا دوزی۔ بمعنی رہنمائی۔ قشلاق۔ بمعنی ملک گرم کی سیر ۱۰۔ بعض فارسی الفاظ غلط املا سے ایسے لکھے جاتے ہیں جو عربی الاصل</p>	<p>دورہ شراب نوشین روان کینیدوی فقہ اوس کا نام ہو گیا ورنہ اوس کا دوسرا نام کسری بن قباو تھا کسرت استعمال سے نوشین روان۔ نوشیروان</p>
<p>معلوم ہوں مگر درحقیقت وہ فارسی لفظ ہیں۔ جیسے۔ سد۔ اسکو صد</p>	<p>۱۱۔ بفت دار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ در اصل نام اوس کا باغ داد تھا یعنی</p>

<p>لکھتے ہیں رشست کو شصت اور تراز کو۔ طراز۔ تپیدن کو۔ طپیدن اور تشت کو۔ طشت اور تارم کو۔ طارم تبرزو کو۔ طرزو۔ تلا کو۔ طلا۔ توتی کو۔ طوطی۔ تہمورس کو۔ طہورث۔ کیومرث کو۔ کیومرث۔ تپانچہ کو۔ طپانچہ وغیرہ۔ ۱۱۔ کلمہ بوالہوس۔ اکثر کتب میں دیکھا گیا کہ لفظ بوالہوس کا جسکی معنی صاحب کی ہے لفظ ہوس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ صریح غلط ہے کیونکہ فارسی میں ہوس</p>	<p>کی معنی آرزو ہے داخل کرنا الف لام تعریف کا اوس پر جائز نہیں بخلاف الفاظ بوالفضول و بوالعجب اور مانند ان کے کہ یہ الفاظ عربی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ لفظ (بہوس) بغیر واو الف کے مرکب ہے۔ لفظ بل سے جس کا اول مضموم و دوسرا ساکن ہے۔ بل معنی بسیار۔ ہوس معنی آرزو۔ یعنی بہت ہوس۔ بلکا بسیار کام وغیرہ۔</p>
--	---

حساب جمل یعنی اجمد

حروف تہجی کو بجائے عدد کے مقرر کرتے ہیں اور تاریخ بولتے ہیں اس

طوریت ہے۔	اجمد	ہوز	حطی	کلمن
۲۲۲۱	۷۶۵	۱۰۹۸	۵۰۲۰۳۰۲۰	
سقف	قرشت	شخز	ضنطغ	
۹۰۸۰۷۰۶۰	۲۰۰۳۰۰۲۰۰۱۰۰	۷۰۰۶۰۰۵۰۰	۱۰۰۰۹۰۰۸۰۰	

ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص
 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

ابجد سے حتمی تک احاد ہے۔ یعنی ان حرف میں سے ہر ایک حرف (سوائے

یا کے) اکائی ہے اور دی، عشرات میں داخل ہے یعنی (دہائی) ہے۔

کلمن سے بعض تک عشرات ہیں یعنی ان حرف میں سے ہر ایک حرف

(دہائی) ہے۔ فرشت سے ضطلع تک مات ہیں یعنی ان حرف میں سے

ہر ایک حرف سینکڑا ہے مگر (خ) کا عدد ہزار ہے (زہی خانہ خدا) اگر اس کے

اعداد کو موافق قاعدہ ابجد کے جمع کریں تو مسئلہ بحری ہوتی ہے۔

اصطلاحات نشان ہر شی کیلئے مقرر ہے

نظر و آسائی	برائی آدم بنویسند۔	ویا لکی وہیل چھکڑہ و چندول۔
راس	برائے انسپ اشتر و گاؤ میش گاؤ ونیل گاؤ و خرو گور خرو گوسفند و گرگدن و آہو۔	مالا و غیرہ زیور کہ در گردن باشد شمشیر و خنجر و جہر و بر چھمی و کمان و چرا و کنار پیش قبض و گرز۔
منزل	غیرہ وقتات و جہاز کشتی و چوبلی و خانہ و پلنگ و چوکی و ہودج و عماری	سک قبضہ دستہ زارع
		و ارامی و چوبلی و پارچہ ابریشمی و غیرہ

<p>وزمرو و لعل و الماس - زربفت و منخل و شجر و طاس و بانا و صوف و مرو و ...</p>	<p>طاقه</p>	<p>موزه و پاپوش نعلین چینی و بازو بند و کنگن و پونجی و گجری و پازیب - قالین و سوزنی و شطرنجی و جاجم</p>	<p>جفت فرو</p>
<p>توپا و بندوق و قرابین و شانه یشان -</p>	<p>ضرب</p>	<p>ورق و کاغذ - طلا و لقره و مشک و عذیر و بنهت و ...</p>	<p>نور</p>
<p>رباب و خشک و مرزنگ و نختری و دوف و دنگ</p>	<p>سار</p>	<p>عطر و کاجور و عینون و کلاسون و ابریشم و عسیر</p>	<p>سار</p>
<p>اسمان و زمین مروارید و مرجان و انگور و ...</p>	<p>طبق و ابر</p>	<p>پیراه آستین دار سند و هر چه آستین بدار و آبراهه و نویسند</p>	<p>طبق و ابر</p>
<p>اسد و عسیر حریر و بربر و عسیر</p>	<p>طالی</p>	<p>نقاشی و عین و سولسند و راکس ستر عبار نویسند</p>	<p>طالی</p>
<p>دو قر و کتاب و حرم اشرفی و سوره و آلاچی و برنجی و دیگر ظروف</p>	<p>حلد عدد</p>	<p>صنعت و سپر و شاپین و چنورا سکارمی</p>	<p>حلد عدد</p>
<p>غله و نیک و شیر و روغن و منو و ... و عقیات و صندل و اگر و ...</p>	<p>سوارسی</p>	<p>پیر و نیک و خرگوش و سنگ و ... و ساه گوش و میمون</p>	<p>سوارسی</p>
<p>فیل و ابریشم و سوب و هر چه دران لفظ سیر باشد -</p>	<p></p>	<p>باغ و کشت و رراعنه و تالاب و خط و فیروزه و کپراج و ...</p>	<p>ساقه</p>

خط ساری
سار و شعلی
و ...

صرفی و نحوی سوالات و دقائق

ف۔ ہست۔ است۔ اور نسبت کو اصل میں لفظ ایست سے بنایا ہے

جبکہ معنی موجود کے ہیں اس طرح سے کہ الف لفظ ایست کو ہائے ہوز سے تبدیل

کیا ہیست ہوا۔ اور پھر ہیست میں سے بسبب کثرت استعمال کے۔ یا گر گئی

ہست ہو گیا اور پھر اس ٹائے ہوز ہست کو الف سے تبدیل کیا تو است

ہو گیا۔ اور اس طرح سے نیست کی اصل نہ ایست ہے الف بسبب کثرت

استعمال کے گر گیا نیست ہو گیا جبکہ معنی غیر قائم یا غیر موجود کے ہیں۔

ف۔ باو کی اصل بود تھی جو صیغہ مضارع ہے الف و عائدہ ما قبل حرف آخر

رما وہ کیا باو ہو گیا جسے سود سے متواتر لیکن بچر و او بسبب کثرت استعمال

کے حذف ہو گیا باو رہ گیا

ف۔ واضح ہو حروف بھی میں سے جو حروف معرکہ میں سمی کہلاتے

ہیں۔ ن۔ ر۔ س۔ ص۔ ط۔ ظ۔ ل۔

ن۔ یعنی جب شروع کلمہ عربی میں واقع ہوں اور ایسے الف لام معرفہ لایا جا

تو وہ لام تلفظ میں نہیں آتا جیسے الشمس وغیرہ اور باقی جو حروف معرکہ کہلاتے

ہیں یعنی۔ ا۔ ب۔ ج۔ ح۔ خ۔ ع۔ غ۔ ف۔ ق۔ ک۔ م۔ و۔ ہ۔ ی۔

اور جن الفاظ میں کہ یہ حرف ابتدا واقع ہوں اور الف لام معرفہ کا او سے

تو وہ لام تلفظ میں آیا کرتا ہے۔ جیسے۔ القمر۔ الدر۔

قاعدہ ارمونی و جہت

وہ۔ واضح ہو کہ صرف اور نحو کے واضعان قانون نے فارسی میں علامت مصدر۔ دن یا تن۔ مقرر کی ہے اگر بالفرض کوئی شخص بجائے دن کے تن استعمال کرے وہ از روئے قاعدہ ارمونی و جہت غلط ہے کس لئے کہ ساتھ یعنی۔ ا۔ ر۔ ز۔ م۔ و۔ ن۔ سی۔ دن کے لازم ملزوم ہے جب کہ علامت مصدر حذف کر دین تو آخرین ان سات حروف میں سے کوئی ایک حرف ضرور ہوگا۔ علیٰ ہذا چار حرف یعنی۔ خ۔ ف۔ س۔ ش۔ تن کے لازم و ملزوم ہیں اگر ان حروف کے بعد آئی ہوئی علامت مصدر حذف کریں تو آخر کا حرف ان چار حروف میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا جسکی مثال ذیل میں دیکھائی ہے۔

مثال دن

زاوَن۔ اَشْرَدَن۔ زَوَن۔ اَدَن۔ اَزْمُوَن۔ رَاَدَن۔ پَرَسِیْدَن

مثال تن

آغَشَن۔ رَغَشَن۔ دَانَشَن۔ اَغَشَتَن۔

مخفی مباد کہ ارمونی و جہت یعنی ان گیارہ حروف کا مجموعہ (از سفر خوش نیم) ہوتا ہے
 و ش۔ شدن و راصل شودن ہے بسبب ثقالت کے داؤ حذف کرو یا گیا۔
 و ت۔ واضح ہو کہ شدن مخفف ہے ستیدن کا۔ آج دن مخفف ہے آجیدن کا
 اور آژون مخفف ہے آژندن کا۔

QUESTIONS IN GRAMMAR.

Name four verbs which may be used transitively or intransitively :—

چهار فعل ایسے بتلاؤ جو متعدی اور لازم مستقل ہوتے ہوں۔

Name the auxiliary verbs and show how each is used :—

افعال معاون کے نام اور ہر ایک کا استعمال بتلاؤ۔

Give the rules for forming امر واحد حاضر when the sign of the infinitive is preceded by ا-خ-س-ش-ف-و-ی respectively.

Give examples.

جب علامت مصدر کے آگے -ی -و -ف -ش -س -خ -ا -ہوں ہر ایک کا قاعدہ امر واحد حاضر بنانے کا بیان کرو اور نظائر دو۔

Distinguish between امر ماضی and امر مجزئ

فرق درمیان امر مجزئ اور امر ماضی کے لکھو۔

Give examples of

ہائمی تائیت and ہائمی عطف

ہائمی عطف اور ہائمی تائیت کے نظائر دو۔

Define the terms

جملہ - رابطہ - خبر - مبتدا

مبتدا اور خبر وغیرہ کی تعریف بتلاؤ

Give illustrations of :— استعارہ۔ مفعول کہ جملہ مقررہ جملہ انشائیہ۔

انکی تعریف مع نظائر لکھو۔

Explain the formation and give examples of :— متعدی بالواسطہ۔

اسم حالیہ اسم صفت۔ جمع

اسم حالیہ اسم صفت۔ جمع۔ متعدی بالواسطہ کہ سطح بنا تے ہیں مع مثال دو۔

State the rules for the formation of the following plurals :—

فرشتگان۔ درایان۔ مکانات

بچے کے الفاظ جمع بنانیکے قوانین لکھو۔

What is the difference between *اسم مصدر* and *مصدر*

مصدر اور اسم مصدر میں کیا فرق ہے۔

How may the nomenative and the accusative be recognised

with regard to form and meaning :—

حالت فاعلی اور مفعولی شکل اور معنی میں کس طرح تمیز کئے جاتے ہیں۔

Give the construction of the sentence which follows

the relative pronoun :—

اوس جملے کی ترکیب بنانا بتلاؤ جس کے بعد ضمیر موصول آتی ہے۔

Write the other numbers of the following :— احوال۔ غلام